

AAJ KI

Maiki

2026

اذکار



1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

There is no God but Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

2: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى

جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

Glory and praise be to You, O Allah. Blessed be Your name and exalted be Your majesty, there is none worthy of worship except You.

اے اللہ! پاک ہے توہر عیب اور ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں،  
بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔

3: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلَّءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِثْلَ مَا  
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ  
وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا  
مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ

Our Rabb (Lord), to You is praise in all the heavens and all the earth, and all that You Will (to create) afterwards, O You, Who are worthy of praise and glory, the most worthy of what a slave says - and we are all Your slaves: no one can withhold what You give, or give what You withhold, and riches cannot avail a wealthy person against You.

اے ہمارے رب! تیرے لیے ہی تعریف ہے آسمانوں بھر اور زمین بھر اور ان  
کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ ثنا اور عظمت کے حق دار! (یہی) صحیح  
ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے اور ہم سب تیری ہی بندے ہیں۔ اے اللہ! جو

الرحمة  
ARRAHMAH

کچھ تو عنایت فرمانا چاہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہی کسی مرتبہ والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔

4: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

O Allah, to You belongs all praise, and to You all matters are returned.

اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تمام تر معاملات تیری ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

5: سُبْحَانَ ذِي الْجُبُرِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

Glory be to the One Who has all power, sovereignty, magnificence and might.

میں صاحب قدرت و بادشاہت اور صاحب بزرگی و عظمت کی پاکی بیان کرتا ہوں۔

6: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ

All praise is due to Allah in every circumstance



تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں۔

7: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

O Allah, I ask You, by the fact that I bear witness that You are Allah.

There is none worthy of worship but You, the Only God, Independent of creation, Who was not begotten and begets not, and none is equal to Him.

اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔

8a: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

8b: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

There is no power and no strength except with Allah.

گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

9: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

O Allah! I ask You because all praise belongs to You. There is no god but You, You are One with no partner. You are the Most Generous, the Creator of the heavens and the earth. O Lord of Majesty and Honor, O Ever-Living, O Sustainer.



اے اللہ! بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوجہ اس کے کہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں بہت احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔

10: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّبِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّبِيْدٌ

O Allah, bestow mercy upon Muhammad ﷺ and the family of Muhammad ﷺ just as You bestowed mercy upon Ibrahim (A.S) and upon the family of Ibrahim (A.S). Verily, You are full of praise and majesty. O Allah, send blessings upon Muhammad ﷺ and upon the family of Muhammad ﷺ just as You sent blessings upon



Ibrahim(A.S) and upon the family of Ibrahim(A.S). Verily, You are the Most Praise worthy, the Most Glorious.

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آلِ محمد ﷺ پر جس طرح رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! برکت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آلِ محمد ﷺ پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔

11: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

O our Lord! All the praises are for You, many good and blessed praises.

اے ہمارے رب! اور تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، بہت زیادہ، پاک اور مبارک۔

11a: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ

سُلْطَانِكَ



O Lord, to You is praise as befits the Glory of Your Face and the greatness of Your Might.

اے میرے رب! میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔

11b: الْحَمْدُ لِلَّهِ

Praise be to Allah

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔

11c: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّانِي وَأَوَانِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلُ

Praise be to Allah Who has sufficed me and given me shelter, Praise be to Allah Who has fed me and given me drink, Praise be to Allah Who has blessed me and increased blessings upon me

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ہر آفت سے بچایا اور ٹھکانا عطا کیا، اور جس نے مجھے کھلایا، اور پلایا اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بڑا احسان کیا۔



12: رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

I am pleased with Allah as (my) Lord, with Islam as (my) religion,  
and with Muhammad ﷺ as (my) Prophet.

میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی  
ہونے پر راضی ہوا۔

13: الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ مَا خَلَقَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا  
أَحْصَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيَّ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ  
عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ كُلِّ شَيْءٍ

Praise be to Allah to the amount of what He created, praise be to  
Allah to the quantity that fills what He created, , praise be to Allah  
to the amount of what He created in the earth and the heavens,  
praise be to Allah to the amount of what is enumerated in His  
Book, praise be to God for all that His Book has enumerated, praise  
be to Allah to the amount of everything, praise be to Allah to that  
which fills everything.



میں اللہ کی حمد اور تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوق کی تعداد کے برابر، میں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوقات کے بھراؤ کے برابر، اور میں اللہ کی تعریف کرتا چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین اور آسمانوں میں ہیں اور اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی تعداد کے برابر اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ہر چیز کے بھراؤ کے برابر۔

## 14: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Glory be to Allah and His Praise.

پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔

## 15: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Allah is Most Great and much praise be to Allah and glorified be Allah at the beginning and end of the day.



اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا اور کثرت سے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔

16: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ  
وَأَشْهَدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ أَشْهَدُ

فُحَمَّدًا عَبْدًا لَكَ وَرَسُولًا لَكَ

O Allah, I call upon You, Your angels and upon the bearers of Your Throne, upon whatever is in the heavens and earth to bear witness that surely You are Allah, there is none worthy of worship but You alone. You have no partners, and I bear witness that Muhammad ﷺ is Your slave and Your Messenger.

اے اللہ! میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیرے فرشتوں کو، اور تیرے عرش اٹھانے والوں کو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے انکو گواہ بناتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور (میں گواہی دیتا ہوں کہ) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔

17: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

O Allah, bestow your favor and peace upon our Prophet  
Muhammad ﷺ .

اے اللہ! ہمارے نبی محمد ﷺ پر رحمت اور سلامتی بھیج۔

18: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God but  
Allah, and Allah is the Greatest and there is no power and no  
strength except with Allah.

پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود  
نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی  
قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

A R R A H M A H



19: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

There is no God except Allah Alone, He has no partner. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful. Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God but Allah, and Allah is the Greatest and there is no power and no strength except with Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

19b: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Glory be to Allah, and Praise, Glory be to Allah, the Supreme.



پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا ہے۔

19c: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلَّ مَا خَلَقَ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا  
أَحْصَى كِتَابُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلَّ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ

عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلَّ كُلِّ شَيْءٍ

Praise be to Allah to the amount of what He created, and praise be to Allah to the quantity that fills what He created, and praise be to Allah to the amount of what is in the earth and the heavens, and praise be to Allah to the amount of what is enumerated in His Book praise be to Allah to what fills in His Book, praise be to Allah to the amount of everything, praise be to Allah to that which fills everything.

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اسکی مخلوقات بھر جائیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی

تعریف کرتا ہوں اس پر جو اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جس سے ہر چیز بھر جائے۔

19d: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ

عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

Glory be to Allah, and praise be to Him to the extent of the number of His creation and to the extent of His pleasure and to the extent of the weight of His Throne and to the extent of the ink of His words.

پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔

20: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

There is no power and no strength except with Allah.

گناہوں سے دوری اور عبادات و اطاعت کی قوت صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔





## Previous Years' Azkaar

1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful. There is no power and no strength except with Allah. Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God but Allah, and Allah is the Greatest.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔



## 2: سُبْحَانَ اللَّهِ

Glorified is Allah.

پاک ہے اللہ۔

## 3: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Glory be to Allah and His Praise.

پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔

## 4: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God but Allah, and Allah is the Greatest.

پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

## 5: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (21:87)



There is no deity except You; exalted are You. Indeed, I have been of the wrongdoers.

کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے تیری ذات پاک ہے، بیشک میں ہی (اپنی جان پر) زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔

6: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

There is no God except Allah Alone, the Most Generous, the Forbearing, glory be to Allah, Blessed be Allah, Lord of the mighty Throne and praise be to Allah the lord of the Worlds.

کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو حلیم ہے، کریم (کرم والا) ہے، پاکی ہے اللہ کی اور اللہ بابرکت ہے جو عظیم عرش کا مالک ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔

A R R A H M A H



(Bazaar) 7: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is none worthy of worship besides Allah. He is all by Himself.

He has no partner. His is the Kingdom, to Him is all praise. He gives and takes life. He is all by Himself. He will not die. In His hands is all good and He has control (power) over all things.

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور وہی ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں، ہر قسم

کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر

ہے۔

8: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي



Praise to Allah and Glory be to Allah, and there is no God But Allah, and Allah is the Greatest and there is no power and no strength except with Allah. O Allah, forgive me my sins.

ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور پاک ہے اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

9: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

There is no God but Allah, Muhammad ﷺ is the Messenger of Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد ﷺ رسول اللہ ہیں۔

10: اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

O Allah, bestow your favor and peace upon our Prophet

ﷺ Muhammad

اے اللہ! ہمارے نبی محمد ﷺ پر رحمت اور سلامتی بھیج۔

11: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا

Allah is Most Great and much praise be to Allah and glorified be Allah at the beginning and end of the day.

اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا اور کثرت سے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔

12: سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Glorified is Allah. All praises are for Allah. Allah is the greatest.

پاک ہے اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔

13: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Glory be to the Sovereign, the Most Holy.

پاک ہے وہ ذات جو حاکم مطلق ہے اور ہر اعتبار سے پاک ہے۔



14: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

O Allah, You are free from every imperfection; praise be to You. I testify that there is no true god except You; I ask Your Pardon and turn to You in repentance.

پاک ہے تو اے اللہ! اور سب تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

15: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

There is no God except Allah Alone, no partner has He.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔

16: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

None has the right to be worshipped but Allah and Allah is the Most Great.



اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود  
نہیں (ابن ماجہ)

17: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him  
belongs the dominion and to Him belongs all praise.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی  
بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔

18: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

There is no God except Allah Alone. There is no power and no  
strength except with Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام  
کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

19: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise, all good is in his hands and He is over all things All Powerful.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

20: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise, He brings life and He causes death, and He is over all things All Powerful.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

21: سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Glorified is Allah. All praises are for Allah. Allah is the greatest.

پاک ہے اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔

22: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ

There is no God except Allah Alone, the Most Generous, the Almighty. There is no God except Allah Alone, the Most Generous, Lord of the mighty Throne.

کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو حلیم ہے، عظیم ہے۔ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو عظیم عرش کا مالک ہے۔



23: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

There is no Deity besides Allah, the One who is Alone, the Conqueror, the Rabb of the heavens and the earth and all that is between them, the All-Mighty, the All-Forgiving.

نہیں ہے کوئی معبود برحق، مگر اللہ، جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔

24: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

O Allah, bestow mercy upon Muhammad ﷺ and the family of Muhammad ﷺ.

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آل محمد ﷺ پر (صحیح الجامع)

25: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ

لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا

أَحْصَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ كُلِّ شَيْءٍ

Praise be to Allah to the amount of what He created, and praise be to Allah to the quantity that fills what He created, and praise be to Allah to the amount of what is in the earth and the heavens, and praise be to Allah to the amount of what is enumerated in His Book, praise be to Allah to what fills in His Book, praise be to Allah to the amount of everything, praise be to Allah to that which fills everything.

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اسکی مخلوقات بھر جائیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جس سے ہر چیز بھر جائے۔



26: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful. Glorified is Allah, all praises are for Allah, Allah is the greatest. There is no power and no strength except with Allah. O Allah forgive me.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پاک ہے اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے اللہ! مجھے بخش

دے۔

27: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ

## الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

There is no true deity except Allah, the Most Grand, the Ever Forbearing. There is no true deity except Allah, Lord of the magnificent Throne. There is no true deity except Allah, Lord of the heavens, Lord of the earth and Lord of the noble Throne.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا بہت بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

28: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

O Ever-Living, O Self-Subsisting, by Your Mercy I seek (Your) assistance.

اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں۔



29: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (صحیح بخاری)

O Allah, bestow Your favor on Muhammad and his wives and progeny as You have bestowed Your favor upon the family of Ibrahim. And bless Muhammad and his wives and progeny as You have blessed the family of Ibrahim, You are full of praise, Most Glorious.

اے اللہ! محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی اے اللہ! رحمت نازل فرما

محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کی ازواج اور آپ ﷺ کی اولاد پر جس طرح رحمت

نازل فرمائی تو نے آلِ ابراہیم علیہم السلام پر۔ اور برکت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آپ

ﷺ کی ازواج اور آپ ﷺ کی اولاد پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے آلِ

ابراہیم علیہم السلام پر، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔

30: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا  
 لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ  
 قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Glory be to Allah, and I begin with praise of Him; there is no power but in Allah ; what Allah wills comes to pass and what He does not will does not come to pass; I know that Allah is Omnipotent and that Allah has comprehended everything in knowledge.

اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ نیکی اور خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔  
 جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری  
 قدرت رکھتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔

31: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

I begin with the Name of Allah; I trust in Allah; there is no altering of conditions but by the Power of Allah.



میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

32: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

None has the right to be worshipped but Allah and Allah is the Most Great, There is none worthy of worship except Allah alone, There is none worthy of worship except Allah with no partner or associate, There is none worthy of worship except Allah, all dominion is His and all praise is to Him, There is none worthy of worship and there is no power and no strength except with Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے ہی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

33: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قَوْلِكَ الْحَقُّ، وَعَدُّكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ الْحَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا

قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا

إِلَهَ لِي غَيْرُكَ

O Allah! To You belongs all praise. You are the Lord of the heavens and the earth. To You belongs all praise. You are the Sustainer of the heavens and the earth and all that is in them. To You belongs all praise. You are the Light of the heavens and the earth. Your word is the truth, Your promise is true, the meeting with You is true, Paradise is true, Hell is true, the Hour is true.

O Allah! To You, I have submitted, in You I have believed, upon You I have placed my trust, to You I turn in repentance, and by Your guidance, I argue (against falsehood), and to You, I refer for judgment. So forgive me for what I have sent ahead (of my sins) and what I have delayed, what I have concealed and what I have made apparent. You are my God; there is no deity worthy of worship except You.

اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کا نگہبان ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیرا کلام حق



ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تجھ سے ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قیامت برحق ہے۔

اے اللہ! میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے لیے جھگڑا کیا، اور تیرے ہی فیصلے کو مانا، پس تو میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے کیے اور جو ابھی باقی ہیں، جو میں نے چھپائے اور جو ظاہر کیے۔ تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔

34: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

There is none worthy of worship but Allah, Who has no partner, Allah is the Greatest, the Most Great, and praise is to Allah in abundance, glory is to Allah, Lord of the worlds. There is no power and no might but by Allah the Mighty, the Wise.



اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بڑائی میں سب سے بڑا ہے اور بے حد و حساب تعریف اللہ کی ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، گناہ سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت اللہ ہی سے مل سکتی ہے، جو غالب حکمت والا ہے۔

35: اللہ اکبر

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Allah is the Greatest,  
Glory be to the Sovereign, the Most Holy,  
There is none worthy of worship but Allah.

اللہ سب سے بڑا ہے،

پاک ہے وہ ذات جو حاکم مطلق ہے اور ہر اعتبار سے پاک ہے،  
اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔

36: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Glory be to Allah, He has no partner. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful.

There is no power and no might but by Allah. Glory be to Allah, and with praise of Him.

اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔

37: اللَّهُ أَكْبَرُ (10)

الْحَمْدُ لِلَّهِ (10)

سُبْحَانَ اللَّهِ (10)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (10)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (10)

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (10)

Allah is the Greatest, All praise is to Allah, Glory be to Allah,  
There is none worthy of worship but Allah. I seek forgiveness from  
Allah. Glory be to the Sovereign, the Most Holy.

اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا  
کوئی حقیقی معبود نہیں، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے۔ پاک ہے وہ ذات جو حاکم  
مطلق ہے اور ہر اعتبار سے پاک ہے۔



A R R A H M A H